رجسٹرڈ نمبر ایل ۱۶۵۲

اعتصموا بحبل اللہ

تار کا پتہ "ہمدرد" دہلی
ٹیلیفون نمبر ۵۵۵

ہمدرد
روزانہ

ایڈیٹر | محمد علی
شنبہ | محرم الحرام ۱۳۴۵ھ
نمبر ۱۵۲ | دہلی | جولائی ۱۹۲۶ء | جلد ۲

میرے تجربات زندگی

نواں باب

مزید تکلیفیں

[illegible]

ہوٹلوں سے ملاقات

[illegible]

کا واقعہ

[illegible]

حکمت و موعظت

[illegible]

ہمدرد

شنبہ ۱۰ جولائی ۱۹۲۶ء

مزدور اور سرمایہ دار

[illegible]

کشکول

دنیا میں کچھ مشکل نہیں

[illegible]

[illegible]

ممالک غیر

اسپین اور جمعیت اقوام
مراکش کا مستقبل

[illegible]

سنگاپور میں مزدوری کی قلت
ہندوستانی اور چینی مزدوروں کا ہجوم

[illegible]

ڈنمرک میں ہڑتالیوں کی شرارت
ایک گودام آگ کی نذر

[illegible]

سارا سرمایہ ختم ہوگیا
باربرداری اور عام مزدوروں کی انجمن کی پرورش

لندن ۲۰ رجنوری [illegible]

پرتگالی ہندوستان
نئے گورنر جنرل کا تقرر

[illegible]

[illegible]

مصنوعی فتح

[illegible]

طرابلس کا ایمان

[illegible]

امریکہ میں بینکوں کی تباہی
جارجیا میں ۴۰ بینک ٹوٹ گئے

[illegible]

فرانس میں پھر وزارت کی مشکلات

[illegible]

[illegible]

حفاظت کے انتظامات خوف کا باعث بنے ہیں

[illegible]

کیا ہندو مسلمانوں کو شرم آ گئی

ہندو مسلم فسادات پر امریکن مدبر کے خیالات

بے کار لڑا کرتے ہیں

ہندوستانی ذہنیت

ولایتی ڈاک کی خبریں

سوڈان کے نظم و نسق کا انتظام

حکومت مصر نے حکومت سوڈان کے ذمہ کر دیا

انگلستان سے بہتر اندھے

نابینا لڑکیوں کی صناعی

مصری پارلیمنٹ کا اجلاس

ممبروں کی تنخواہ میں اضافہ کی کوشش

مسٹر راجرسن کشمیر میں

شہزادہ ... افغانستان کی ... سے واپسی

برطانیہ میں کوئلہ کی مشکلات

مالکان کی مخالفت

مالکان کان کی ضد

روس میں برطانوی کانکنوں کے لئے چندہ

حکومت سے ... چندہ وصول کیا گیا

کنیڈا میں ایک ہندوستانی کی عزت افزائی

قومی ... کی نسبت سر ...

ہندوستان

ہز ایکسیلنسی وائسرائے کو ایڈریس

پونا میں ریزولیوشن پاس نہ ہو سکا

[illegible]

ایک کلرک پر سات الزام

پچیس ہزار روپیہ اڑا دیا

[illegible]

پولیس کو ریوالور اور بم کا مصالحہ ملا

ایک نوجوان بنگالی کی گرفتاری

[illegible]

[illegible] کا جہاز ٹھیک ہو گیا

[illegible] سے روانگی

[illegible]

اکالی لیڈر کا کریا کرم

کل لاش جلائی گئی

[illegible]

ہز ایکسیلنسی وائسرائے کی تقریر

ہندو مسلم فسادات کا ذکر خیر

(سلسلہ گزشتہ)

[illegible]

غازی پاشا کے قتل کی سازش

کل کا ہمدرد ضرور دیکھئے

[illegible]

[illegible]

فسادات کی ذمہ داری کس پر ہے

[illegible]

کلکتہ میں محرم کا جلوس

ایک مکان سے پتھر پھینکے گئے

[illegible]

حکومت کی طاقت و قوت کا مظاہرہ

[illegible]

آل انڈیا کانفرنس کی تجویز

[illegible]

خیمۂ اسلام کا ارض مقدس سے پہلا مکتوب

وفد خلافت کی مخالفین بھی عزت کرتے ہیں

وفد مدینہ منورہ جانے والا ہے

[illegible]

دار الحکومت

فسادات دہلی کا مقدمہ

دو ہندوؤں پر قتل کا الزام

[illegible]

دو اور گواہوں کا بیان

[illegible]

پیشی

[illegible]

دہلی کی موسمی حالت

[illegible]

شمال مشرقی حصہ میں آمدی

۱۸ جولائی کی کیفیت

[illegible]

برکت

شمال مشرقی حصہ میں شدید بارش

[illegible]

نواب عماد الملک مرحوم

[illegible] (گذشتہ سے پیوستہ)

مرحوم کی علمی زندگی

نواب صاحب کے علمی ذوق اور شوق کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ [illegible]

[illegible]

اشاعت علم کے متعلق مساعی جمیلہ

نواب صاحب مرحوم کے علمی کارناموں کی [illegible]

[illegible]

مدارس کی تعداد میں حسب ذیل اضافہ ہوا۔

تعداد مدارس	سنین
٢٥٣	[illegible]
٥٠٠	[illegible]
٩١٢	[illegible]
٩٢٥	[illegible]

[illegible]